

De 3930

1116





DISSERTATIO,
DE
CURDIS THADDÆITIS
EX ORE
BEHENAMI
EPISCOPI CHALDÆI.

Quam

Confent. Ampliss. Facult. Philosoph.

P R Ä S I D E

MATTH. NORBERG,

S. S. Th. Doct. & L. L. O. O. & Græc. Linguæ Prof. Reg. & Ord.
Societ. Gött. Musæi Parif. Corresp.
Societ. Educ. Membr.

PRO

LAUREA

In Lyceo Carolino

Die 18 Maii MDCCCVIII.

modeste permittit

JOHANNES WIESLANDER.

Smolandus.



LUNDÆ,
Typis Berlingianis.



CURDIS THADDÆLIUS

EX ORBE

BERENIUS

THESSALIA CHYLDÆLI

فيش جنس اكران الذين ما هم مسلمين ولا
نصاري ولا ملة من اهلل ولكن ياخذوا ابتداهم من
هار قدلوس تلاميذ المسيح الذي يسموه شيخ عاشى
عنهم ساكنين في اراضي الاركان واراضي المسلمين
ومنهم في جبل سنجار الذي في بين النهرين هذا
الجبل عاصي جداً وفيه ائمار الذي ما ينوجد
منها في مسكنة كلها وهو لابي الاركان الساكنين
في هذا الجبل كان اول اصلهم نصاري ولكن قد
حرروا زمانيا كثيراً وصاروا عابدين الشيطان الي
الآن ولكن قسوتهم هم الابسين مسون وما
لهم كتابة وقراءة بل ياخذوا على هنهم بالغایب
واحد من الآخر اشيا من القصص من النورة
والقرآن اذا صدقوا والذخروا مع المسلمين يمدحوا
في محمد وابي بكر والباقي وانا الذخروا مع
النصاري



*Hiis p[ro]p[ter]eis eti[am] illius etiam illius
et p[ro]p[ter]eis eti[am] illius etiam illius*

Sunt homines, qui Curdi vocantur, qui autem religione differunt: Christianam aliis, aliis Muhammedanam sequentibus. Quamquam nec desunt, quibus neque una neque altera curæ est. Tamen hi parentem sui ac conditorem Thaddæum, Christi discipulum, (nomen gentile Scheich Adi est), ferunt. Terrâ autem dispersi agunt: aliis inter Muslemios, aliis inter Christianos versantibus. Maxime vero memorabiles sunt, quibus patria est mons Sengjar, situs in Mesopotamia, et arduo aditu præstantique fructuum genere juxta famosus. Jugum vero qui infendent Curdi, principio Christiani fuerunt. Sed paullatim sua virtus sic eviuit, ut ipsi Dæmoni veneratio constet: in similitudinem eam sedæ superstitionis composito etiam, qui niger est, sacerdotali cultu. Et ii rudes scribendi artis omni annalium genere carent. Neque nisi nonnullas, quas sacer Christianorum & Muhammedanorum Codex continet, historias a majoribus traditas memoria tenere posteris datnm est. Et simulandi hinc materia. Etenim ubi usus

النصارى يمددوا في المسيح والعنزة والقديسين
 ولا يعتقدوا في هذا لأن يرجعوا أن الله تعالى
 مثل ما هو رحوم ورأوف يغفر للشيطان في آخر
 أزمننا في أغفاره للشيطان ينغرر لهم أيضاً ما يقدم
 أحد يمسك في الأرض قداء لهم خصوصاً في أراضيهم
 لأنه يصدّير خطر عليه التي الموت ولا أحد يقدّم
 إلا ذنب عظيم يسمى الشيطان باسمه ولا يلعن إلا أحسن
 معينهم في الضياعة يغلّبوا الأرض ويملؤها من فنفهم
 ويبحروا النصارى أو المسلمين التي ضيعهم وبشتروا
 منهم المعاشر والعنزة فاسـ لهم حـبـ وسـنـ ولـبـنـ
 فـسـاهـمـ جـيـعـهـمـ يـغـزـلـواـ القـطـنـ وـيـبـرـعـوـهـاـ الـيـ الـحـايـكـبـينـ
 الـذـيـنـ يـبـحـوـ الـيـ ضـيـاعـهـمـ اوـ يـغـزـلـواـ كـيـ يـعـمـلـواـ
 لـهـمـ الـفـنـصـانـ وـالـلـهـاسـ وـمـتـلـمـداـ يـنـوـجـدـ عـنـهـمـ اـحـدـ
 مـنـ طـاـيـفـهـمـ كـيـ يـعـرـفـ يـنـسـاجـ التـنـزـمـواـ اـنـهـمـ يـبـحـوـواـ
 بـيـنـهـمـ مـنـ النـصـارـىـ نـسـيـجـبـينـ وـيـعـطـوـاـ لـهـمـ الغـرـلـ
 كـيـ يـعـمـلـ اـهـمـ خـامـ وـبـعـدـ الـغـسـالـةـ يـرـسـلـوـهـ الـيـ
 الصـبـغـبـينـ كـيـ يـنـصـدـعـ اـنـرـقـ لـاـنـ كـلـ نـسـاهـمـ يـلـبـسـواـ
 لـبـاسـ وـقـصـانـهـنـ نـرـقـ اـهـمـ الرـجـالـ يـلـبـسـواـ اـهـمـ
 فـيـنـهـوـواـ

cum Muslemiis eis fuerit, Muhammed, Abu Becer & alii, ubi vero cum Christianis, Christus, S. Virgo & S. Patres in ore & laude sunt: talium quamvis nulla fide. Spes vicissim est, Deum, cajus est, vicem humanam misereri, ipsis, ut Dæmoni, propitium ad ultimum fore. Et terram, præcipue suam, ipsis prospectantibus, sputo adspergere, ut capitale, sic, ipsis audientibus, Dæmoni nominatim maledicere, haud leve crimen fuerit. Honestior vero, quæ sua vivendi ratio est. Habitant pagatim, agrique colendi studio, quæ ad vivendum pertineant, sibi anquirunt. Et vitæ necessitatibus quicquid superfluerit, sive caprinæ sive ovillæ rei id fuerit, mercantur præsenti pecunia, qui Christiani & Muhammedani hos paganos frequentant. Sic etiam simplex eorum cibus, lac recens vel concretum, & butyrum. Ad mulieres vero quod attinet, opes earum est, nere gossipium: quod in fila duellum, vel adventitiis textoribus vendere, vel exinde, quod indumenti interioris aut exterioris fuerit genus, texendum aliis tradere, operæ pretium habetur. Domestica enim inscrita textoriæ artis aliunde textores, & quidem Christianos, arcessendi necessitatem facit: quibus texenda res neta datur. Coloranda vero, & quidem cæsia, tinctori tela lauta commendatur. Scilicet mulieres hoc colore suam vestem interiorem, exteriorem, distingvunt: viris albo gaudentibus. Magni præterea gallinarii prox-

ma

Bibliothek der
Deutschen
Morgenländischen
Gesellschaft



ma cura est. Et ovorum magna inde copia: quorum alia domum ferunt, aliorum autem pre-
tio salutifera hortensia parant. Quod enim resinæ,
sacchari, æruginis & collyrii olitores, regionem
suam peragrantes, secum ferunt, ad medelam
oculorum emitur. Et sensus hic videndi (sic
perhibetur), ut ope resinæ clarescit, vi autem
collyrii corroboratur, sic usu sacchari & æruginis
convalescit. Venas vero incidere, aut potionē vel
clystere salutem querere, in commune ignotum
est. Quomodo nec alio remedii genere (si quæ
ista oculorum sint exceperis) per omne vitæ tem-
pus ad diem usque supremum uti libet. Et hæc
ratio. Cibus eorum, ut unius tantum speciei, sic
stomacho minime gravis est. Atque ubi jusculum
(tanta est parsimonia) sorbetur, carne non vivitur.
Plurimi tamen pauperes obvii. Et gentis festi-
ritus si spectentur, tribus per annum vicibus
jejunium profertur, ut, quod fuerit Ninevitarum
(irati Numinis nuntio Jona misso), imitantur. Sed
nonnisi unâ vice festum sollempne agitur. Templum
(hoc unum) quisque tum cum sua uxore petit.
Et muneris loco boves ovesque offerre fas est:
templique intra pomeria convivalibus oblectamen-
tis, epulis, & saltatui ac cantui indulgere, nefas
non habetur. Sola hæc loci ceremonia. Pia enim
vota solvere aut concipere, sacramentum non
est. Tamen delubrum, utcumque in speciem sta-
buli altaribus tabulisqne pictis nudum, lychnuchis,

&



قذاريل قصاص مـا مـتنلـين نصفـهم مـا والباقي فـرين
 فـير كـتان مع فـتـيـلة مـلـضـوـمة في شـفـفة حـدـيد أـبـيـض
 الـذـي في نـصـفـه نـغـبـ كـي يـحـطـوا فـيـهـ الفـتـيـلة هـنـهـ
 هي فـرـيـنة كـنـيـسـتـهـم بـعـد مـا اـنـتـم عـيـدـهـم كـلـ
 وـاحـدـ يـرـجـعـ إـلـيـ مـحـلـهـ وـأـمـيرـهـم يـجـمعـ كـلـ الغـمـ
 وـالـبـقـرـ الـدـيـنـ اـنـهـدـواـ إـلـيـ شـيـخـ عـانـيـ الـذـيـ هـوـ
 أـيـضـاـ اـسـمـ كـنـيـسـتـهـمـ بـاخـذـهـمـ وـبـيـعـهـمـ وـبـتـصـرـفـ
 فيـ ذـهـنـهـمـ وـمـاـ يـعـطـيـ حـسـابـ لـاـحـدـ مـنـ طـايـقـتـهـ لـانـهـ
 مـتـسـلـطـ عـلـيـهـمـ بـالـاـكـشـرـ عـلـيـ كـنـيـسـتـهـمـ وـهـوـ
 رـجـلـ بـالـحـكـمـ قـويـ وـمـعـتـبرـ كـثـيرـ عـنـهـمـ لـهـ
 عـسـاـكـرـ وـقـتـ الـحـاجـةـ لـانـ كـلـ طـايـقـتـهـ هـمـ خـيـالـ
 غـايـةـ مـاـ يـكـونـ وـهـذـاـ الـأـمـيرـ يـعـمـلـ حـرـبـ مـعـ عـثـمـلـيـ
 يـرـسـلـ يـطـلـبـ الـعـسـاـكـرـ وـالـخـيـالـ مـعـونـهـ مـنـ النـاسـ
 الـذـيـنـ هـمـ تـحـتـ حـكـمـهـ وـلـكـنـ بـعـضـ الـأـوقـاتـ يـطـلـعـ
 مـعـ عـسـكـرـةـ وـيـشـلـحـ النـاسـ السـافـرـيـنـ *

& quidem vitreis, abundat. Et illi aquæ ex una,
oleacei vero vel linei liquoris ex altera parte di-
midia pleni: insertis fistulis ferreis, ellychniorum
sustentaculis. Talis fani ornatus. Et, procuratis
his sacris, domum reverti licet. Pecora vero, quæ
templo, Scheich Adi etiam vocato, singuli dono
dederunt, capit hujus populi princeps, iisque
venditis, pecuniam pro lubitu collocat. Neque
enim accepti solutique rationes inire oportet.
Tam potens suæ civitatis in sacris ille est. Nec
rebus in civilibus dignitate & honore minor est.
Nam suppetunt, ubi opus fuerit, copiæ equestres,
& ex præcellentes: quas subsidiarias, orto cum
Othomanis bello, subditis imperat. Fit tamen ali-
quando, ut, cohortes peregrinantur opibus suis
spoliandi consilio capto, in campum castra sua
moveat.



Wacker
Johann Gottlieb Cephalo ist verblüfft erstaunt und
durchdrungen von Empfindungen, die er nicht versteht.
Doch gegen Ende des Gedichtes wird der Sinn für das
Vergängliche geweckt, und es wird deutlich, dass die
Zeit, die er für die Erforschung der Natur aufgewandt hat,
nicht umsonst war. Er hat nicht nur wissenschaftliche
Erkenntnisse gesammelt, sondern auch eine tiefe
Bewunderung für die Schönheit und Weisheit der
Schöpfung Gottes. Er ist überzeugt, dass die
Wirkung der Natur auf den Menschen nicht nur
körperlich, sondern auch geistig und spirituell ist.
Er sieht in der Natur ein Spiegelbild des
Himmlischen Reichs und erkennt die
Glorie und Macht Gottes darin. Er ist
überzeugt, dass die Natur ein Lehrbuch
der Philosophie ist und dass sie
die Wahrheit über das Leben und
den Tod, über das Glück und das
Leid, über das Gute und das Böse
aufzeigt. Er ist überzeugt, dass die
Natur ein Lehrbuch der Religion ist
und dass sie die Wahrheit über
Gott und die Seele, über das
Paradies und die Hölle, über
die Auferstehung und die
Wiederkunft Christi zeigt.







D: 2e 3930

ULB Halle
001 050 15X

3/1



